

برائے فوری اجراء

برامپٹن میں موسم گرما کے دوران ڈھیر ساری پرلطف سرگرمیاں ہونے جا رہی ہیں

برامپٹن، آن (19 جون 2019) – اپنا سوم سوٹ، کمبل اور پانی کی بوتلیں سمیٹیں – موسم گرما شروع ہو گیا ہے اور یہی وقت ہے برامپٹن میں کچھ دلچسپ سرگرمیاں کرنے کا!

کئی طرح کی آؤٹ ڈور سہولت گاہیں جلد کھولی جا رہی ہیں اور پورے موسم گرما کے دوران دلکش سرگرمیاں جاری رہیں گی۔

ستاروں کے نیچے موسم گرما کی موویز | 5 جولائی تا 30 اگست

شہر بھر میں مختلف مقامات پر مفت دکھائی جانے والی خاندان دوستانہ آؤٹ ڈور موویز کے لیے اپنا کمبل، لان چیئر اور اپنے لیے اسنیکس لے کر آئیں۔ شو سے پہلے گیمز اور دیگر سرگرمیاں بھی منعقد کی جائیں گی۔

فُل مووی شیڈول کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔

موسم گرما کے کیمپ | 3 جولائی تا 1 ستمبر

پورے موسم گرما کے دوران کئی طرح کے ڈے کیمپس میں بچے اور نوجوان فعال رہ سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ 2019 کے لیے نئے کیمپس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافی فیس دے کر کیمپ سے پہلے اور بعد کی نگہداشت حاصل کی جا سکتی ہے اور منتخب شدہ مقامات پر کیمپ لنچ پروگرام بھی دستیاب ہو گا۔

موسم گرما کے کیمپس کے بارے میں مکمل معلومات [یہاں](#) دستیاب ہے۔

پارک میں کھیل | 1 جولائی تا 31 اگست

سٹی آف برامپٹن پروگرام لیڈرز کے زیر انتظام 6 تا 13 سال تک کے بچے کسی مقامی پارک میں منتظم شدہ گیمز سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، منتخب شدہ مقامات پر دوران ہفتہ صبح 9:30 تا دن 11:30 تک۔

مقامات کی فہرست کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔

پروفیسرز لیک بیچ اور بوٹھ ہاؤس | 29 جون تا 3 ستمبر تک روزانہ کھلے گا

برامپٹن کی اپنی ملکیتی 65 ایکڑ پر پھیلی ہوئی 'سپرنگ فیڈ لیک' کے ساحل پر جا کر ایک دن لطف اٹھائیں۔ موسم اور حالات موافق ہوں، تو زیر نگرانی تیراکی کی جگہ، ایک واٹر سلائیڈ اور کراہ پر کشتیاں دستیاب ہوں گی۔ بوٹھ ہاؤس رینٹلز بھی اب دستیاب ہیں۔

پروفیسرز لیک کے بارے میں مکمل تفصیلات [یہاں](#) پر دستیاب ہیں۔

چنگواکوسی پارک میں موسم گرما کی سہولتیں | 24 جون تا 3 ستمبر تک روزانہ کھلیں گی

برامپٹن چنگواکوسی پارک میں موسم گرما کے لیے کئی طرح کی دلچسپ سرگرمیاں موجود ہیں بشمول ایک پیٹنگ زُو، پونی رائیڈز، منی گالف، پیڈل بوٹس، ایک کیروسیل اور ٹرین رائیڈ، ایک اسپرے پیڈ اور کھیل کا میدان۔

چنگواکوسی پارک کے بارے میں مکمل تفصیلات [یہاں](#) دستیاب ہے۔

ایلڈوریڈو پارک آؤٹ ڈور ہول | 29 جون تا 3 ستمبر تک روزانہ کھلے گا

برامپٹن کے واحد آؤٹ ڈور ہول میں ایک سہ پہر گزاریں، جس کے گرد و نواح میں کریڈٹ رور کے کناروں پر موجود قدرتی جنگلات ایک دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں۔

ایلڈوریڈو پارک کے بارے میں مکمل تفصیلات [یہاں](#) دستیاب ہے۔

اسپرے پیڈز

شہر بھر میں موجود 14 عدد اسپرے پیڈز اور ویڈنگ پُولز سے خوب لطف اٹھائیں
اسپرے پیڈز کے مقامات کی فہرست کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔

موسم گرما کی ان سرگرمیوں میں سے کسی کے بارے میں بشمول فیسیں، مقامات، پروگرام کی تفصیلات اور اوقات کار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے www.brampton.ca/recreation ملاحظہ کریں یا کسی بھی تفریحی مرکز میں جا کر اپنے لیے موسم گرما کی دلچسپیوں کے شیڈول کی ایک طبع شدہ نقل اٹھا لیں۔

ایک ماحول دوست شہر کے طور پر، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو، برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔ اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں۔

اقتباس

"برامپٹن میں موسم گرما نہایت دلکش ہوتا ہے۔ برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ شہر بھر میں موجود آؤٹ ڈور موویز کا لطف اٹھائیں، پروفیسرز ایک پر چمکتی ہوئی دھوپ کا مزہ لیں اور ایلٹوریٹو پارک کے آؤٹ ڈور پُول میں بھی غوطہ لگائیں اور سال کے اس عرصہ کے دوران ہمارے شہر کی جانب سے پیش کی جانے والی دیگر سہولتوں سے بھی ضرور مستفید ہوں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca